

## صدقِ مقال Truthfulness

1. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ

اور جب (کسی کی نسبت) کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو گو وہ (تمہارا) رشتہ دار ہی ہو۔ ﴿﴾

(6: Al-Ana'm \ 152/b)

Whenever you speak, speak justly, even if a near relative is involved. ﴿﴾ (6: Al-Ana'm \ 152)

2. وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّذِي هِيَ أَحْسَنُ ط

اور میرے بندوں سے کہہ دیں کہ (لوگوں سے) ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں۔ ﴿﴾

(17: بني اسرائيل \ 53/m)

And ask My servants that they should speak what is the best. ﴿﴾

(17: -Al-Isra/ Bani Israeel Bani \ 53)

3. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا۔ (2: 83 / 2)

Speak good words to the people. (2: Al-Baqarah \ 83)

4. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْمَلُونَ ﴿ۚ﴾ كِبْرًا مَّقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَعْمَلُونَ ﴿ۚ﴾

مومنو! تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے ﴿﴾ اللہ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات

کہو جو کرو نہیں۔ ﴿﴾ (61: 2-3 / 4)

O you who believe! Why you say, which you do not practice? ﴿﴾ It is most odious in the sight of Allah that you say which you do not do yourself. ﴿﴾ (61: As-Saf \ 2-3)

5. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ط أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ۚ﴾

(کیا یہ عقل کی بات ہے کہ) تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کئے دیتے ہو، حالانکہ

تم کتاب (اللہ) بھی پڑھتے ہو۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ (2: 44)

Would you enjoin righteousness on the others and forget yourselves, even though you study the scripture? Would you not understand? ﴿﴾

(2: Al-Baqarah \ 44)

6. وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿ۚ﴾

ہر جھوٹے گنہگار پر افسوس ہے۔ ﴿45: a / ٧﴾

Woe to every sinful liar. ﴿45: Al-Jasiyah\ 7﴾

7. وَلَا تَلْسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٥﴾

اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ ﴿2: 42﴾

And mix up not truth with falsehood, nor conceal the truth while you know (what it is). ﴿2: Al-Baqarah\ 42﴾

8. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿٤٢﴾

اے اہل ایمان! اللہ سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔ ﴿9: e / 119﴾

O you who believe! Fear Allah and be with the truthful. ﴿9: At-Tawbah\ 119﴾

(9: At-Tawbah\ 119)

9. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٩٠﴾

مومنو اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو ﴿90﴾ وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا۔ ﴿90﴾

وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا۔ ﴿90﴾

﴿33: 70-71﴾

(33: 70-71)

O you who believe! Fear Allah and speak straight. ﴿33: 70-71﴾ That He may put your deeds in right state and forgive your sins. And whoever obeys Allah and His Messenger has indeed attained a big success. ﴿33: 70-71﴾

(33: Al-Ahzab\ 70-71)

10. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٣٣﴾

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾

تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹلائے۔

کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانا نہیں ہے؟ ﴿33﴾ اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی

ہیں۔ ﴿39: 32-33﴾

Who is, then, more unjust than one who utters a lie concerning Allah, and denies the truth when it comes to him. Is there not in hell an abode for disbelievers? ﴿39: 32-33﴾ And he who brings the truth and he who confirm - such are the righteous people. ﴿39: Az-Zumar\ 32-33﴾

11. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ۖ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿١٨﴾

اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا ﴿١٨﴾ مگر (انشاء اللہ کہہ کر یعنی اگر) اللہ چاہے تو (کر دوں گا) اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو۔ اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے۔ ﴿١٨﴾ (18: n / 23-24)

And say not of anything, "I shall do it tomorrow" - ﴿١٨﴾ unless Allah! "Pleases". And remember your Lord when you forget, and say, "I hope that my Lord will guide me to a near course to the right than this." ﴿١٨﴾

(18: Al-Kahf \ 23-24)

## اکل حلال Lawful Sustenance

1. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

پوچھے تو کہ جو زینت (و آرائش) اور کھانے (پینے) کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دیں کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خاص ان ہی کا حصہ ہوں گی۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ ﴿٣٢﴾

(7: c / 32)

Say: Who has forbidden the adornment of Allah, which He has produced for His servants, clean and pure provisions for sustenance? Say: They are for the believers in the life of this world purely for them on the Day of Judgment. Thus do We explain the message in detail for those who know. ﴿٣٢﴾ (7: Al-A'raf\32)

2. الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ

آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا

ان کو حلال ہے۔ ﴿٥﴾ (5: a / 5)

This day all good and pure things are made lawful to you. The food

of the people of the Book is lawful to you and yours is lawful to them. ﴿۵﴾

(5: Al-Ma'idah \ 5)

3. يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۵﴾

لوگو جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ۔ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ وہ تمہارا کھلا دشمن

﴿۵﴾ ہے۔

(2: 178)

O people! Eat of lawful and good things on earth, and do not follow the footsteps of the devil, for he is to you an avowed enemy. ﴿۵﴾

(2: Al-Baqarah \ 168)

4. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۵﴾

مومنو! جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو کہ اللہ حد سے

بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ﴿۵﴾ (5: a / ۸۷)

O you who believe! Make not unlawful the good things which Allah has made lawful for you and commit no excess. Indeed Allah loves not those who exceed limit ﴿۵﴾ (5: Al-Ma'idah \ 87)

5. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ ۚ إِنَّ كُنتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ ﴿۵﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ

عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْخِنْزِيرَ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۚ فَمِنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ

عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۵﴾

اے اہل ایمان جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائیں ہیں ان کو کھاؤ اور اگر اللہ ہی کے بندے ہو تو اس (کی نعمتوں) کا شکر بھی ادا کرو (۱۷۲) اس نے تم پر مہرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے ہاں جو ناچار ہو جائے (بشرطیکہ) اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد (ضرورت) سے باہر نہ نکل جائے اس پر کچھ گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا (اور) رحم کرنے والا ہے۔ ﴿۵﴾ (2: 172-173)

O you who believe! Eat of the good things that We have provided for you, and be grateful to Allah, if it is Him you serve. ﴿۵﴾ He has only forbidden you dead meat, and blood, and the flesh of swine, and that on which any other name has been invoked besides that of Allah. But if one is forced by necessity, neither willful disobedience, nor transgressing due

limits, - then is he guiltless. For Allah is Oft-Forgiving Most Merciful. ﴿٥﴾

(2: Al-Baqarah\ 172-173)

6. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْبَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ  
وَالطَّيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْآزْكَامِ ۗ ذَٰلِكُمْ  
فُسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَسِّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  
وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۗ  
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ  
مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ  
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

تم پر مہر اور جانور اور (بہتا) لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور  
گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے یہ سب حرام ہیں اور  
وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں۔ مگر جس کو تم (مرنے سے پہلے) ذبح کر لو اور وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح کیا  
جائے اور یہ بھی کہ پاسوں سے قسمت معلوم کرو یہ سب گناہ (کے کام) ہیں آج کافر تمہارے دین سے ناامید ہو گئے ہیں  
تو ان سے مت ڈرو اور مجھی سے ڈرتے رہو (اور) آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری  
کر دیں اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا ہاں جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے (بشرطیکہ) گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو  
اللہ بخشنے والا مہربان ہے ﴿٥﴾ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں (ان سے) کہہ دیں کہ  
سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں اور وہ (شکار) بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم  
نے سدھار کھا ہوا اور جس (طریق) سے اللہ نے تمہیں (شکار کرنا) سکھایا ہے (اس طریق سے) تم نے ان کو سکھایا ہو تو جو  
شکار وہ تمہارے لئے پکڑ رکھیں اس کو کھالیا کرو اور (شکاری جانوروں کو چھوڑتے وقت) اللہ کا نام لے لیا کرو اور اللہ سے  
ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ﴿٥﴾ (5: a / 3-3)

Forbidden to you are: dead meat, blood, the flesh of swine, and that on which has been invoked the name of other than Allah; that which has been killed by strangling, or by a violent blow, or by a headlong fall, or by being gored to death; that which has been eaten by a wild animal; unless you are able to slaughter it (in due form); that which is sacrificed on stone; also is the division by raffling with arrows: that is impiety. This day have those who disbelieve despaired of your religion: so fear them not but fear

Me. This day have I perfected your religion for you, completed My favour upon you, and have chosen for you Islam as your religion. But if any one is forced by hunger, with no inclination to sin, then Allah is indeed Oft-Forgiving, Most Merciful. ﴿ They ask you what is lawful to them. Say: lawful to you are things good and pure: and what you have taught your trained hunting animals in the manner directed to you by Allah: eat what they catch for you, but pronounce the name of Allah over it: and fear Allah. Surely Allah is swift in reckoning. ﴿ (5: Al-Ma'idah\ 3-4)

7. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿

اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آجائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا۔ ﴿ (16: 1 / 116)

And say not - for any false thing that your tongues may put forth, - "This is lawful, and this is forbidden," so as to ascribe false things to Allah. For those who ascribe false things to Allah, will never prosper.

(16: An-Nahl \116)

8. أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿

تمہارے لیے چارپائے جانور (جو چرنے والے ہیں) حلال کر دیئے گئے ہیں۔ بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں مگر احرام (حج) میں شکار کو حلال نہ جاننا۔ اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ ﴿ (5: a / 1)

Lawful to you are all four-footed animals, with the exceptions named, but game animals are forbidden while you are in the sacred precincts or in pilgrim garb: for Allah does command as He pleases. ﴿

(5: Al-Ma'idah\ 1)

9. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيَظُنُّونَ بِأَهْوَابِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿

تو جس چیز پر (ذبح کے وقت) اللہ کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو ﴿ اور سب کیا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں (بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے) مگر اس صورت میں کہ ان کے (کھانے کے) لیے

ناچار ہو جاؤ اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو (اللہ کی مقرر کی ہوئی) حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ ﴿۱۱۹﴾

(6: /b 118-119)

So eat of (meats) on which Allah's name has been pronounced, if you have faith in His signs. ﴿۱۱۹﴾ Why should you not eat of (meats) on which Allah's name has been pronounced, when He has explained to you in detail what is forbidden to you - except when you are constrained? But many do mislead (people) by their fancies through ignorance. Surely your Lord knows best the transgressors. ﴿۱۱۹﴾ (6: Al-Ana'm\ 118-119)

10. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ط

اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے۔ ﴿۱۲۱﴾ (6: /b ۱۲۱)

Eat not of (meats) on which Allah's name has not been pronounced:

That would be impiety. ﴿۱۲۱﴾ (6: Al-Ana'm\ 121)

11. قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ

خَيْزِرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَوْ هَلَكَ لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ

رَحِيمٌ ۝ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرِ ۗ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا

مَا حَمَلَتْ طُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ط ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَعْضِهِمْ ۗ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۝

کہتے کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا۔ جبراس کے کہ وہ مراہو جانور یا بہتالہو یا سور کا گوشت کہ یہ سب ناپاک ہیں یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے تو تمہارا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے ﴿۱۲۱﴾ اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیئے تھے اور گایوں اور بکریوں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی سوا اس کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا اوچھڑی میں ہو یا ہڈی میں ملی ہو یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی اور ہم تو سچ کہنے والے ہیں۔ ﴿۱۲۱﴾ (6: /b 145-146)

Say: "I find not in what is revealed to me aught forbidden for an eater to be eaten thereof, unless it is dead meat or blood poured forth, or the flesh of swine, - for it is unclean or, what is transgression on which a name, other than Allah has been invoked". But (even so), if a person is forced by necessity, neither desiring, nor transgressing due limits, then surely your Lord is Oft-Forgiving, Most Merciful. ﴿۱۲۱﴾ For those who followed the

Jewish Law, We forbade every (animal) with undivided hoof, and We forbade them that fat thereof, except what adheres to their backs or their entrails, or is mixed up with a bone: this in recompense for their willful disobedience: for We are truthful. ﴿6﴾ (6: Al-Ana'm\ 145-146)

12. أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿6﴾

تمہارے لیے سمندر (کی چیزوں) کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے (یعنی) تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے اور جنگل (کی چیزوں) کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں رہو تم پر حرام ہے اور اللہ سے جس کے پاس تم (سب) جمع کئے جاؤ گے ڈرتے رہو۔ ﴿5﴾ (5: a / 96)

Lawful to you is the game of sea and its food, - for the benefit of yourselves and the travelers, but forbidden is game of land, as long as you are in the sacred precincts or in pilgrim garb. And fear Allah, to Whom you shall be gathered back. ﴿5﴾ (5: Al-Ma'idah\ 96)

## چال ڈھال Gait and Decorum

1. وَلَا تَصْعَقْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۖ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿31﴾

اور (ازراہ غرور) لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا۔ کہ اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔ ﴿31﴾ اور اپنی چال میں اعتدال کئے رہنا اور (بولتے وقت) آواز نیچی رکھنا کیونکہ (اوپنی آواز گدھوں کی ہے اور کچھ شک نہیں کہ) سب آوازوں سے بُری آواز گدھوں کی ہے۔ ﴿31﴾ (18-19 / {

"And turn not your face away from people with pride, nor walk in insolence through the earth. Verily, Allah likes not each arrogant boaster. ﴿31﴾ "And be moderate (or show no insolence) in your walking, and lower your voice. Verily, the harshest of all voices is the voice of the ass." ﴿31﴾

(31: Luqman\ 18-19)

2. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿31﴾

اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے (جاہلانہ) گفتگو کرتے



ہیں تو سلام کہتے ہیں۔ ﴿25: u / ۶۳﴾

And the slaves of the Most Beneficent (Allah) are those who walk on the earth in humility and sedateness, and when the foolish address them (with bad words) they reply back with mild words of gentleness. ﴿

(25: Al-Furqa'an\ 25:63)

3. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَكُنْ تُخْرِقُ الْأَرْضَ وَلَكِنْ تَبْلَغُ الْجِبَالَ طُولًا ﴿

اور زمین پر اکڑ کر (اور تن کر) مت چل کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں (کی چوٹی)

تک پہنچ جائے گا۔ ﴿17: m / ۳۷﴾ (بنی اسرائیل)

And walk not on the earth with conceit and arrogance. Verily, you can neither rend nor penetrate the earth, nor can you attain a stature like the mountains in height. ﴿(17: Bani-Israeal/Al-Isra\ 37)﴾

## لباس و زیبائش Dress and adornment

1. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿

پوچھو تو کہ جو زینت (و آرائش) اور کھانے (پینے) کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خاص ان ہی کا حصہ ہوں گی۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ ﴿

(۳۲/c :7)

Say: Who has forbidden the adornment of Allah, which He has produced for His servants, clean and pure provisions for sustenance? Say: They are for the believers in the life of this world purely for them on the Day of Judgment. Thus do We explain the message in detail for those who know. ﴿(7: Al-A'raf\32)﴾

2. يٰبَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيثًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿

اے نبی آدم ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا ستر ڈھانکے اور (تمہارے بدن کو) زینت (دے) اور (جو)

پر ہیزگاری کا لباس (ہے) وہ سب سے اچھا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ ﴿﴾

(7: c / ۲۶)

O you Children of Adam! We have bestowed raiment upon you to cover your nakedness as well as for adornment. But the robe of piety is the best. Such are among the signs of Allah, that they may be mindful. ﴿﴾

(7: Al-A'raf\ 26)

3. یٰبَنِی آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

اے نبی آدم! ہر نماز کے وقت اپنے تئیں مزین کیا کرو۔ ﴿﴾ (7: الاعراف/ 31)

O Children of Adam! Dress well at every time you pray. ﴿﴾